



OPAL TAKAFUL PLAN

STIMULATE THE GROWTH OF YOUR
HARD EARNED MONEY

Introduction:

As its name defines, Opal Takaful Plan, a Unit Linked Endowment Plan which is a Rock solid investment to your financial future. It's a new takaful plan from Jubilee Life Insurance Company Limited – Window Takaful Operations. A plan which helps you achieve your goals, be it Savings or Protection in the grandest way possible. A plan which helps you achieve your dreams like no other Takaful Plan can.





The high point of Opal is its high first year allocation that accelerates your investments so that you reach your targeted savings much quicker than any other comparable plan in the market. Designed especially for High Achievers who demand something extra from life, Opal Takaful Plan offers Protection and Extra Savings to match your lifestyle. A high growth plan with desired protection for your loved ones when they need it the most. So, If you are looking for a Family Takaful Plan structured to give you smart returns along with a safety net in a Shariah Compliant manner –Opal Takaful plan is a perfect choice.

Participant can cancel the membership within 14 days from the receipt of the membership documents

What is Takaful?

"Takaful" is an Arabic word which means "joint guarantee". It is a community-pooling system, based on the principles of brotherhood and mutual cooperation, where participants contribute in a common fund to help those who need it the most.

The system runs on these principles:

-  Participants pool a small amount called "Contribution" into a Waqf Fund, on the basis of "Tabarru", to protect themselves and each other against specified risks
-  The Window Takaful Operator manages a Waqf Fund, called Individual Family 'Takaful Participants' Fund (IFTPF), with due diligence and prudence in the capacity of "Wakeel"
-  The claims are paid from the IFTPF
-  Surplus amount, if any, may be distributed among the participants as per the advice of Shariah Advisor and Appointed Actuary of the Company

What is a Family Takaful Plan?

A Family Takaful Plan is an arrangement which rests on key Shariah principles of mutual cooperation, solidarity and wellbeing of a community.

Under a Takaful arrangement, individuals come together and contribute towards the common objective of protecting each other against financial losses by sharing the risk of life and health on the basis of mutual assistance.

What is Opal Takaful Plan?

Opal Takaful Plan is designed for catering the needs of high net worth individuals in a Shariah Compliant manner. It allows you to accumulate your savings with higher allocations along with financial protection in order to cope up with any financial uncertainty that arises in case of one's untimely death.



What are the benefits of this plan?

In addition to the savings and protection aspects of Opal Takaful Plan, there are various benefits that you may take advantage of:

Maturity Benefit:

In case of participant surviving until the maturity of this membership, the participant will receive the bid value of the units(accumulated amount in the PIA). To understand this better, you may consult our distributions staff. They would brief you about the same with further clarity.

Death Benefit:

This plan offers you an ability to select your protection needs. Protection amount can be between 5 to 25 times your Annual Basic Contribution, depending upon underwriting outcomes. If the person covered expires during the term of the plan, the nominee will get the selected protection amount or bid value of the units(accumulated amount in the PIA) whichever is higher.

Built in Benefits:

Accidental Death Supplementary Takaful Benefit:

An amount in addition to the basic plan death benefit will be paid to the beneficiary or beneficiaries chosen by you in case of accidental death.

Supplementary Optional Takaful Benefits:

A participant in this plan can add the following Supplementary Optional Takaful Benefits in order to enhance the protection aspect of this plan:

Critical Illness Plus Supplementary Takaful Benefit:

The sum covered under this Supplementary Takaful Benefit will be paid independently to the basic plan benefit in case of diagnosis of one of the eighteen specified critical illnesses.

Term Cover Supplementary Takaful Benefit:

An amount in addition to the basic plan death benefit will be paid to the beneficiary or beneficiaries chosen by you in case of death.

Accidental Death or Dismemberment Supplementary Takaful Benefit:

This Supplementary Benefit pays out in case of death or dismemberment, paying out complete or partial benefits depending on severity of the dismemberment.

How are the funds accumulated in this Plan?

Any contributions made by the Participants of this plan will be invested in one or both of the following Shariah Compliant Funds:

Family Takaful Income Fund:

Family Takaful Income Fund focuses on providing sustainable returns with low risk over medium to long-term by investing in Shari'ah Compliant Government securities and Islamic bank placements. It is classified as fund having low risk profile.

Family Takaful Balanced Fund:

Family Takaful Balanced Fund focuses on providing competitive returns on investments with a balanced portfolio of wide range of Shari'ah Compliant Instruments. It is classified as fund having medium risk profile.

Your Contributions, by default, will be allocated to Family Takaful Income Fund the of the Jubilee Life Window Takaful Operations which offers sustainable returns with minimum risk, over medium to long-term, by investing in a diversified portfolio of securities consisting of different Shariah compliant money market and debt instruments and does not have any investment in equity securities.

However, you have the option to invest in any fund of your choice other than the default investment fund by signing the declaration form.

These funds are managed by expert investment managers under the guidance of the Shari'ah Advisor to ensure optimised returns with manageable risk exposure under strict Shari'ah Compliance. Your contributions will earn investment returns during the term of the plan. At the end of the chosen term, you will receive your accumulated cash value as a lump sum.

Note: The past performance of these funds is not necessarily indicative of the future performance of any of these funds.

Unit prices of Jubilee Life Family Takaful's Funds are published in leading dailies regularly and on Jubilee Life Family Takaful website: www.jubileefamilytakaful.com

What are Shariah Compliant Funds?

Shariah Compliant Funds comprise of investments in Shariah compliant instruments such as Islamic Equities, Sukook, Islamic Term Certificates, Islamic Mutual Funds, placement with Islamic Banking Institutions (IBIs) etc. These funds do not contain in any way the element of Riba (Interest), Qimar (Gambling) and Gharar (Uncertainty) which is impermissible from Shariah's perspective.

Our Shariah Advisor:

All business operations and products of the Window Takaful Operations are approved and supervised by an independent Shariah Advisor, who is an eminent and renowned Shariah Scholar. An in-house Shariah Compliance Department supervises the implementation of promulgated Shariah Rulings & Guidelines pertaining to different operational and investment related issues.

An external Shariah Audit further certifies Shariah Compliance of the company.

How are the funds allocated in this Plan?

Unit Allocation as % of Basic Plan contribution	Membership Period	Contribution Amount (PKR)		
		Minimum 400,000	Minimum 600,000	Minimum 1,000,000
	Year 1	70%	75%	80%
	Year 2	85%	90%	95%
	Year 3	100%	100%	100%
	Year 4 & 5	100%	100%	100%
	Bonus Allocation	*Bonus Allocation Percentage		
	Year 6 till 10	3%	3%	3%
	Year 11 onwards	5%	5%	5%
	Top-up Contribution	100%	100%	100%

*Bonus Allocations are subject to terms and conditions.

What is the frequency of the Contributions?

The Opal Takaful Plan offers you the flexibility to choose your mode of contributions according to your ease of payment i.e. Annually, Semi-Annually, Quarterly or Monthly.

What is the minimum Basic Contribution?

The minimum Basic Plan Contribution that can be made is given below,

Frequency	Minimum amount
Annual	PKR 400,000
Semi-Annual	PKR 200,000
Quarterly	PKR 100,000
Monthly	PKR 50,000

What are Top up Contributions?

This plan is a long term savings & protection plan where you have to make pre-defined regular contributions. However, you can top up your regular contribution payments as and when you desire. These will be allocated as 100% to the PIA to boost your savings.

Combating Inflation:

Your Sum Covered and Contribution increases automatically every year, up to the limit specified by the Window Takaful Operator without any medical investigations. You, of course, retain the right to decline this increase and continue your plan on same terms and conditions as before or choose a lower increase according to your needs.

What is the Eligibility Criteria to avail this Plan?

Eligibility	Minimum Entry Age: 18 Years Maximum Entry Age: 65 Years	
Membership Term	10 years	Same as contribution payment term
Contribution Payment Term	5 years	10 to 25 years*

* Subject to maturity at the age of 75 years

Will the funds be professionally managed?

Same as contribution payment

Yes, your contributions will be allocated into Funds, which are managed by expert investment managers to ensure optimized returns, while ensuring fully compliance with Shariah principles under the supervision of Shariah Advisor.

Can I withdraw funds from this Plan when I need them?

Partial Withdrawal:

The funds that have been contributed by yourself in the form of Contributions (Regular, as well as Top-Up), along with the accumulated amount over time under this Plan, can be withdrawn at any time. This may be subject to a minimum amount withdrawn and a minimum amount of cash value remaining after the withdrawal.

Full Plan Surrender:

You have an option to surrender your plan any time, at time of surrender you will be paid in full the cash value of your fund. However surrender in early membership years may result in lower cash value.

What pricing methodology does Jubilee Life follows?

Jubilee Life - WTO follows forward unit pricing methodology. It is worked out by dividing the total value of investments in the fund by the number of active units in the fund as of pricing date.

What are fees applicable to this Plan?



The following fees will be applicable to the Opal Takaful Plan:

Wakalah tul Istismar Fees comprising of*	
Bid offer Spread	5% bid offer spread
Allocation Fee	Amount of regular basic contributions not allocated to the PIA.
Investment/Management Fee	1.5% p.a. of the net asset value in PIA.
Administration Fee*	PKR 245 per month.
Takaful Contribution	<p>Takaful contribution shall be deducted as filed with the SECP from PIA and credited to IFTPF for the benefit covered to be paid from IFTPF.</p> <ul style="list-style-type: none">- 40% of each Takaful contribution for benefits covered under Participants Membership Document- 40% of each Takaful contribution for benefit covered under the Supplementary Takaful Benefit Documents.
Wakalah Fee from IFTPF (PTF)*	Is deducted as Wakalah Fees from IFTPF
Switching Fees	PKR 500 per switch if more than four (4) is availed in a membership year.
Mudarib share*: Contribution From Investment Income	The Window Takaful Operator (Mudarib) will be entitled to 40% of the investment income earned by IFTPF (Rabb ul Maal) on the basis of Mudarabah
Contribution Allocation Charge	Contribution allocation charge for the year is calculated as hundred percent of the contribution received less percentage of the allocated contribution for the year.

* Reviewable by the Window Takaful Operator

Surplus Sharing

Takaful not only provides sharing of risks, but also offers Surplus sharing, a unique feature provided to the participants. By contributing Tabarru (Donation), the participant may be entitled to possible Surplus sharing from the Waqf Fund. If at the end of the stated period, any excess amount is left after paying off claims and other costs, it is utilized for the following purposes:






-  A portion of the fund would be set aside to strengthen the Waqf Fund for future excessive claims;
-  Remaining surplus may be distributed among the participants, on a fair and equitable basis.

In any case the Surplus would not belong to the Window Takaful Operator and would always be used for the benefit of the Pool/or the public at large.

Free Look Period:

Opal Takaful Plan offers a free look period of 14 days during which you can review your Plan terms and conditions and cancel membership. Contribution will be refunded on receipt of written request within 14 days from the date of receipt of Participant Membership Document (PMD). Expenses incurred on medical or financial examination(s), if any, and any Takaful Contributions paid by the Member into the IFTPF, may be deducted.

Disclaimers:

-  The past performance of the funds offered by the Window Takaful Operator is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds and the Window Takaful Operator will not incur any liability for the same.
-  This is a family takaful product which has two distinct elements i.e., family takaful Protection and Investment. The investment component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).
-  A personalized illustration of benefits will be provided to you by a distribution representative. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various terms and conditions.
-  Please refer to the Participant Membership Document (PMD) for detailed understanding of the various terms and conditions.
-  Supplementary Takaful Benefits may be available if the person covered is aged 55 years or less nearest birthday at the time of issuance.

- ✓ The investment risk shall be borne by the participant and actual maturity or surrender values may be lower or higher than the projected figures. A declaration must be signed by the Participant if he/she opts to invest in a fund other than the default fund.
- 📄 Please refer to company web site for target asset mix of the underlying fund:
(<https://jubileefamilytakaful.com/jubilee-family-takaful-funds/fund-manager-reports/>)

In case of complaint or for further details, please contact:

Jubilee Life Insurance Company Limited

Window Takaful Operations

Head Office: 74/1-A, Lalazar, M.T Khan Road, Karachi, 74000, Pakistan

Tel: (021) 32120201, 35205094, Fax: (021) 35610959

UAN: (021) 111 111 554 and SMS: Your Query to 8554

Email: info@jubileelife.com, complaints@jubileelife.com

Website: www.jubileefamilytakaful.com



CERTIFICATE OF SHARIAH COMPLIANCE FOR JUBILEE LIFE INSURANCE COMPANY LTD – WINDOW TAKAFUL OPERATIONS

In the capacity of Shariah Advisor of Jubilee Life Insurance Company Ltd – Window Takaful Operations, I hereby certify that I have reviewed the structure of **Opal Takaful Plan** which is based on the Wakalah-Waqf Takaful Model. I have examined all relevant processes and documents including the Participant's Membership Document. In addition, I have also reviewed in detail and perform continuous monitoring of the investments with regard to Family Takaful Funds.

Based on the Shariah rulings and to the best of my knowledge and belief, the **Opal Takaful Plan** of Jubilee Life Insurance Company Ltd – Window Takaful Operations, investments of all Takaful Funds, relevant documents and processes are fully compliant from all aspects of Shariah.

In my opinion, it is permissible from Shariah point of view to obtain Membership in this product, participate in the Waqf Fund and benefit from it.

Mufti Zeeshan Abdul Aziz
Shariah Advisor



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جوبلی فیمیلی تکافل - اوپل تکافل پلان کی شرعی حیثیت

جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ۔ ونڈو تکافل آپریشنز کے شرعی مشیر کی حیثیت سے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جوبلی فیمیلی تکافل کا اوپل تکافل پلان وقف اور وکالت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ میں نے اس سے متعلقہ تمام امور جس میں دستاویزی کاغذات بشمول ممبر شپ دستاویز کا بغور جائزہ لیا ہے مزید یہ کہ فیمیلی تکافل کی سرمایہ کاری اور اس سے متعلقہ تمام فنڈز کا جائزہ لیا ہے اور بحمد اللہ ان تمام امور کو شریعت کے اصولوں کے مطابق پایا ہے۔

میری رائے میں جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ۔ ونڈو تکافل آپریشنز کے جوبلی فیمیلی تکافل اوپل تکافل پلان کی رکنیت لینا، وقف فنڈ میں تعاون کرنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا شرعاً جائز ہے۔



مفتی فیشان عبدالعزیز

شرعی مشیر: جوبلی لائف انشورنس کمپنی۔ ونڈو تکافل آپریشنز



فنڈ کا ایک حصہ وقف فنڈ میں اضافہ کے طور پر مستقبل میں اضافی کلیمز کی ادائیگی کیلئے الگ رکھا جائے گا۔

بقیہ سرپلس کی رقم شفاف اور مساویانہ بنیاد پر شرکاء میں تقسیم کی جاسکتی ہے۔

سرپلس کی رقم کاسی بھی صورت میں ونڈو تکافل آپریٹر سے کوئی تعلق نہ ہوگا اور اس کا فائدہ ہمیشہ رقم جمع کرانے والے افراد کو ہی دیا جائے گا۔

فری لک پیریڈ:

اوپل تکافل پلان آپ کو آخر کرتا ہے 14 دن کا فری لک پیریڈ جس میں آپ پلان کے تمام اصول و ضوابط کا جائزہ لے سکتے ہیں اور ممبر شپ ختم کر سکتے ہیں جبکہ آپ کانسٹری بیوشن پارٹنٹ ممبر شپ دستاویز (PMD) میں موجود تاریخ کے مطابق 14 دن کے اندر اندر دی جانے والی درخواست پر آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ جس میں آپ کی میڈیکل فیس اور دیگر اخراجات کی کوئی شامل ہوگی اور اگر آپ کے کنٹری بیوشن سے وقف پول میں جانے والی کوئی رقم ہوئی تو اس کی بھی کوئی کی جاسکتی ہے۔

ضروری معلومات:-

ونڈو تکافل آپریٹر اپنے موجودہ فنڈ سے متعلق مستقبل کے لئے کوئی پیش گوئی فراہم نہیں کریگا۔ فنڈ سے متعلق بتائی گئی کسی پیش گوئی کا ونڈو تکافل آپریٹر ذمہ دار نہیں ہوگا اور نہ ہی ضامن ہوگا۔

یہ ایک لائف انشورنس پروڈکٹ ہے جس کے دو الگ الگ عناصر ہیں یعنی انشورنس پروٹیکشن اور انویسٹمنٹ۔ سرمایہ کاری کا جزویونٹ سے منسلک فنڈ (فنڈز) کے تحت بنیادی اثاثوں کی کارکردگی سے منسلک ہے۔

ذاتی السٹریٹن تکافل کنسلٹنٹ کی جانب سے فراہم کی جائیگی۔ ازراہ کرم السٹریٹن میں دی گئی تمام تفصیلات اور مختلف شرائط اچھی طرح سمجھ لیں۔

براہ کرم پارٹنٹ ممبر شپ دستاویز (PMD) میں دی گئی تمام تفصیلات اور مختلف شرائط اچھی طرح سمجھ لیں۔

ممبر شپ حاصل کرتے وقت پارٹنٹ کی عمر 55 سال ہو یا قریب ترین تاریخ پیدائش اسکے قریب ہو تو ضمنی تکافل فوائد دیئے جاسکتے ہیں۔

سرمایہ کاری میں نقصان کے خدشات پارٹنٹ کی جانب سے تصور کئے جائیں گے، تکمیل مدت کے وقت یا ممبر شپ ختم کرنے کے وقت اصل رقم بیان کردہ رقم کے مقابلے میں کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ پلٹسٹنٹ پہلے سے طے شدہ فنڈ میں کے علاوہ فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے لئے اعلامیہ پر دستخط کرنا ضروری ہے۔

ازراہ کرم بنیادی فنڈ کے ٹارگٹ ایٹس کس کی معلومات کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ پر رجوع کریں۔

<https://jubileefamilytakaful.com/jubilee-family-takaful-funds/fund-manager-reports/>

رابطہ کی تفصیلات:

شکایت کی صورت میں یا مزید تفصیلات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں:

جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ

ونڈو تکافل آپریٹرز

ہیڈ آفس: A-1/74، لالہ زار، ایم ٹی خان روڈ

کراچی 74000، پاکستان

فون نمبر: 35205094، 32120201 (021)

فیکس: 35610959 (021)

یو ایس این: 111-111-554 (021)

ایس ایم ایس: اپنا سوال لکھ کر 8554 پر ارسال کریں

ای میل: info@jubileelife.com, complaint@jubileelife.com

ویب سائٹ: www.jubileefamilytakaful.com

اس پلان میں کیا فیس شامل ہیں؟

اولیٰ تکافل پلان میں مندرجہ ذیل فیس شامل ہیں:

وکالہ الاستثمار فیس درج ذیل پر مشتمل ہے	
ابتدائی چارج	5% بذآفر سپیریڈ
ایلوکیشن فیس	ریگولریٹک کنٹریبیوشن کی رقم جو پی آئی اے کو مختص نہیں کی جاتی ہے
منجمنٹ فیس	پی آئی اے میں خالص اثاثہ کی قیمت کا 1.5 فیصد
ایڈمنسٹریشن فیس*	245 روپے فی مہینہ
تکافل کنٹریبیوشن	پارٹنیشنٹ اویسٹمنٹ اکاؤنٹ سے تکافل کنٹریبیوشن کی اُس رقم کی کوٹہ کی جائے گی جس کی بابت ایس ای سی پی میں فنانسنگ کی گئی ہے اور اسے آئی ایف ٹی پی ایف میں جمع کرایا جائے گا تاکہ آئی ایف ٹی پی ایف سے کوآڈینیٹنگ کی ادائیگی کی جاسکے۔ پارٹنیشنٹ کی ممبر شپ دستاویز کے تحت حاصل کردہ فوائد کے لئے ہر تکافل کنٹریبیوشن کا 40% منی تکافل ٹینیٹ ڈسٹاویزات کے تحت شامل ہر فائدہ مند کنٹریبیوشن کا 40%
آئی ایف ٹی پی ایف کی طرف سے کٹ فیس* (پی ٹی ایف)	IFTPF سے وکالہ فیس کے طور پر کوٹہ ہے۔
سوچنگ فیس	ایک ممبر شپ سال کے دوران اگر 4 مرتبہ سے زائد فنڈ سوچنگ کی صورت میں 500 روپے فی فنڈ سوچ۔
مضارب شیئر*: سرمایہ کاری کی آمدنی	ونڈو تکافل آپریٹر (مضارب) مضارب کی بنیاد پر آئی ایف ٹی پی ایف (رب المال) پر حاصل کردہ منافع کا 40% کا حقدار ہوگا۔
کنٹری بیوشن ایلوکیشن چارج	کنٹری بیوشن مختص کا حساب لگایا جاتا ہے۔ کیونکہ کنٹری بیوشن فیصد سال کے لیے مختص کردہ کنٹری بیوشن کا مخصوص صول کر رہا ہے۔

* ونڈو تکافل آپریٹر کو ان تمام چارجز کا جائزہ لینے اور ان میں ترمیم کرنے کا حق حاصل ہے۔

سرپلس شیئرنگ:

تکافل نہ صرف آپ کے خدشات میں حصہ دار ہوتا ہے بلکہ یہ آپ کو سرپلس شیئرنگ بھی پیش کرتا ہے جو شرکاء کو پیش کی جانے والی اضافی خصوصیت ہے۔ جو شرکاء تہرّج (عطیات) جمع کریں گے وہ وقف فنڈ سے سرپلس حصہ کی وصولی کے اہل ہو سکتے ہیں۔ مقررہ مدت ختم ہونے پر کلیمز کی ادائیگی اور دیگر اخراجات کے بعد بچنے والی رقم کو درج ذیل مقاصد کیلئے استعمال کیا جاسکتا ہے:

اس پلان کو حاصل کرنے کیلئے اہلیت کا معیار کیا ہے؟

داخلے کے لئے کم سے کم عمر: 18 سال	اہلیت
داخلے کے لئے زیادہ سے زیادہ عمر: 65 سال	ممبر شپ کی مدت
کنٹری پویشن کی ادائیگی کی مدت کے برابر	کنٹری پویشن کی ادائیگی کی مدت
10 سے 25 سال*	5 سال

* 75 سال کی عمر تک تکمیل ہونے کی شرط پر

کیا فنڈز کے انتظامات پیشہ ورانہ طور پر کئے جائیں گے؟

جی ہاں! آپ کی جمع کرائی گئی رقمات ایسے فنڈز میں لگائی جائیں گی جن کی دیکھ بھال سرمایہ کاری کے ماہر مینجرز کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کو یقینی بنایا جاسکے اور اسے ایک شریعہ ایڈوائزر کی نگرانی میں کلی طور پر شریعہ کے مطابق لگایا جاتا ہے۔

کیا میں ضرورت پڑنے پر اس پلان میں سے فنڈز نکال سکتا ہوں؟

جزوی رقم نکالنا:

آپ کی طرف سے جمع کرائی گئی رقم (باقاعدہ اور اضافی رقم) مع اس پلان کے تحت مقررہ مدت کے درمیان کسی بھی وقت نکالی جاسکتی ہے۔ اس کے لئے کم سے کم رقم نکالوانے اور رقم نکالوانے کے بعد بقیہ کم سے کم رقم موجود رہنے کی شرط لاگو ہو سکتی ہے۔

مکمل رقم نکالنا:

آپ کسی بھی وقت اپنے پلان کو سرینڈر کر سکتے ہیں۔ مکمل دستبرداری کے وقت آپ کو فنڈ میں موجود نقد رقم ادا کر دی جائے گی اگر ممبر شپ کے قریب ترین سالوں میں مکمل دستبرداری کی گئی تو کیش ویلو کم ہو سکتی ہے۔

قیمتوں کا تعین کرنے کا طریقہ

جوہلی لائف-ڈیبلٹی اوفارورڈیونٹ کی قیمتوں کے تعین طریقہ کار کی پیروی کرتی ہے۔ یہ فنڈ میں سرمایہ کاری کی کل قیمت کو قیمتوں کے تعین کی تاریخ کے مطابق فنڈ میں فعال اکائیوں کی تعداد سے تقسیم کر کے تیار کیا جاتا ہے

رقم کتنے تو اتر سے جمع کرائی جاسکتی ہے؟

اوپل ہیکافل پلان میں آپ اپنی سہولت کے مطابق ماہانہ، سہ ماہی، ششماہی یا سالانہ ادائیگی کے طریقہ کار کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

شرکت کی کم از کم بنیادی رقم کتنی ہے؟

شرکت کی کم از کم بنیادی رقم درج ذیل ہیں:

کم از کم رقم	تواتر
400,000 روپے	سالانہ
200,000 روپے	ششماہی
100,000 روپے	سہ ماہی
50,000 روپے	ماہانہ

ٹاپ اپ کنٹری بیوشن کیا ہے؟

یہ ایک طویل المیعاد کا بچت اور تحفظ کا پلان ہے جس میں آپ کو پہلے سے طے شدہ ایک رقم باقاعدگی سے جمع کرائی ہوتی ہے۔ تاہم آپ جس وقت بھی چاہیں تو اپنی باقاعدہ ادا کی جانے والی رقم بڑھا سکتے ہیں۔ اس رقم کا 100% پی آئی اے میں آپ کی بچت میں اضافہ کیلئے مختص کیا جائے گا۔

کنٹری بیوشن میں انفلیشن کے مطابق اضافہ:

آپ کیلئے تحفظ کی رقم اور آپ کی جمع کرائی جانے والی رقم از خود ہر سال بڑھتی جاتی ہے جو بغیر کسی طبی تحقیق کے، ونڈو ہیکافل آپریٹر کی جانب سے مخصوص کردہ حد تک بڑھتی ہے۔ تاہم آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ یہ اضافہ قبول نہ کریں اور اپنے پلان کو پہلے سے طے شدہ شرائط و ضوابط کے مطابق جاری رکھیں یا اپنی ضروریات کے لحاظ سے کم سے کم اضافہ کا انتخاب کریں۔

آپ کی کنٹری ہیومنز پلان کی مدت کے دوران منافع حاصل کریں گے۔ منتخب کردہ ٹرم کے اختتام پر آپ کو جمع شدہ کیش ویلویو یکمشت ملے گی۔
نوٹ: ان فنڈز کی ماضی کی کارکردگی ان فنڈز کے مستقبل کی کارکردگی کی ضمانت نہیں ہے۔

جوہلی لائف فیلٹی ٹکافل فنڈز کی یونٹ کی قیمتیں معروف اخبارات میں باقاعدگی سے شائع ہوتی ہیں اور جوہلی لائف فیلٹی ٹکافل ویب سائٹ- www.jubileefam.com ilytakaful.com پر بھی اپلوڈ ہوتی ہیں۔

شریعہ کمپلائنٹ فنڈز کیا ہیں؟

شریعہ کمپلائنٹ فنڈز وہ فنڈز ہیں جہاں شریعت کے اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری کی جاتی ہے جس میں اسلامک ایکویٹیز، صکوک، اسلامک ٹرم سرٹیفیکیٹس، اسلامک میوچل فنڈز، اسلامک بینکنگ انٹی ٹیوشنز وغیرہ شامل ہیں جو کہ ربا (سود)، قمار (جوا)، غرر (دھوکہ) جیسی خرابیوں سے پاک ہیں۔

ہمارے شریعہ ایڈوائزر:-

ہماری تمام پروڈکٹس ایک ماہر باصلاحیت شرعی ایڈوائزر کی زیر نگرانی شریعت کے اصولوں کے مطابق منظور شدہ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعہ کمپلائنٹ ڈیپارٹمنٹ سرمایہ کاری اور آپریشنل مسائل کو شریعت کے اصولوں کے مطابق راہنمائی اور حل فراہم کرتا ہے۔ کمپنی کے شریعہ کمپلائنٹ کو مزید مستحکم کرنے کیلئے ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ بھی کیا جاتا ہے۔

اس پلان میں فنڈز کس طرح مختص جاتے ہیں؟

مشمل ٹکافل پلان کے تحت آپ کی کنٹری ہیومنز حسب ذیل مختص کی جائیں گی:

کنٹری ہیومنز کی رقم (پاکستانی روپے میں)			ممبر شپ دورانیہ	بنیادی منصوبہ کی شراکت کے فیصد کے طور پر یونٹ مختص
کم از کم 1,000,000	کم از کم 600,000	کم از کم 400,000		
80%	75%	70%	پہلا سال	
95%	90%	85%	دوسرا سال	
100%	100%	100%	تیسرا سال	
100%	100%	100%	چوتھا اور پانچواں سال	
"بونس ویلو کیشن فیصد"			بونس ویلو کیشن	
3%	3%	3%	چھٹے سال سے دسویں سال تک	
5%	5%	5%	اگلیاں ہویں سال اور آگے	
100%	100%	100%	ٹاپ اپ کنٹری ہیومنز	

* بونس ویلو کیشن فیصد شرائط و ضوابط سے مشروط ہیں۔

ضمنی اختیاری ہکافل فوائد:

یہ پلان آپکو اضافی فوائد حاصل کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔

کریڈٹ انس پلس ضمنی ہکافل فائدہ:

پارٹنر شپ کو 18 خطرناک بیماریوں میں سے کسی ایک کے لاحق ہونے کی صورت میں کریڈٹ انس پلس ضمنی ہکافل فائدہ کے تحت رقم الگ سے ادا کی جائے گی جو کہ پلان کے بنیادی فائدہ سے الگ ہوگی۔

ٹرم کور ضمنی ہکافل فائدہ:

اس ضمنی ہکافل فائدہ کے تحت قدرتی موت کی صورت میں آپکی جانب سے منتخب کئے جانے والے ایک یا کئی افراد کو اضافی رقم ادا کی جائے گی۔

حادثاتی موت یا معذوری کی صورت میں ہکافل کا ضمنی فائدہ:

حادثاتی موت یا معذوری کی صورت میں ضمنی فائدے کے طور پر مکمل یا جزوی رقم ادا کی جائے گی جو معذوری کی نوعیت پر مبنی ہے۔

اس پلان میں فنڈز کس طرح جمع کئے جاتے ہیں؟

شرکاء کی جانب سے جمع کرائی گئی رقم سے درج ذیل شریعہ کمپلائنٹ فنڈز میں سے کسی ایک یا دونوں ذرائع میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔

فیملی ہکافل اکم فنڈ

فیملی ہکافل اکم فنڈ شریعہ کمپلائنٹ گورنمنٹ سیکیورٹیز اور اسلامی بینک کے آلات میں سرمایہ کاری کر کے درمیانی سے طویل مدتی تک کم رسک کے ساتھ پائیدار منافع فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس فنڈ کی درجہ بندی کم درجے کے رسک پروفائل والے فنڈ کے طور پر کی گئی ہے۔

فیملی ہکافل سیلنڈ فنڈ

فیملی ہکافل سیلنڈ فنڈ شریعہ سے مطابقت رکھنے والے آلات کی وسیع رینج کے متوازن پورٹ فولیو کے ساتھ سرمایہ کاری پر مسابقتی منافع فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس فنڈ کی درجہ بندی درمیانے درجے کے رسک پروفائل والے فنڈ کے طور پر کی گئی ہے۔

آپ کی کٹری بیوشنز، بطور ذیلیات، جوہلی لائف ونڈو ہکافل آپریشنز کے فیملی ہکافل اکم فنڈ میں مختص کیے جائیں گے جو کہ مختلف شریعہ کمپلائنٹ سیکیورٹیز کے متنوع پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کر کے کم سے کم رسک کے ساتھ پائیدار منافع فراہم کرتا ہے۔ یہ فنڈ ایکویٹی سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری نہیں کرتا ہے۔

تاہم آپ کے پاس ڈیٹا ریشن فارم پر دستخط کر کے ذیلیات انویسٹمنٹ فنڈ کے علاوہ اپنی پسند کے کسی بھی فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا اختیار ہے۔

یہ فنڈ نامہ انویسٹمنٹ نیچرز شریعہ ایڈوائزر کی رہنمائی میں چلاتا ہے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ شریعہ کمپلائنس کے تحت قابل انتظام رسک انکسپوزر کے ساتھ بہترین منافع دے سکیں۔

فیملی تکافل پلان کیا ہے؟

فیملی تکافل پلان باہمی تعاون، استحکام اور کمیونٹی کے فوائد کے لئے شرعی اصولوں کی مدد سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ تکافل کے زیر انتظام افراد باہمی تعاون کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے مستقبل میں ہونے والے خطرات کو تقسیم کرتے ہیں۔

اوپل تکافل پلان کیا ہے؟

اوپل تکافل پلان شرعی اصولوں کی بنیاد پر مبنی بڑی آمدنی والے افراد کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تشکیل دیا گیا ہے۔ اس میں اونچے درجے میں تخصیص کی وجہ سے آپ کی بچت میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ اور ممبر کی خدانخواستہ بے وقت موت کی صورت میں فیملی کی مالی بے یقینی کی کیفیت کو ختم کر کے مالی تحفظ فراہم کرتا ہے۔

اس پلان کے کیا فائدے ہیں؟

اوپل تکافل پلان میں بچت اور مالی تحفظ کے علاوہ آپ کیلئے اور بھی کئی فائدے حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں:

بیمیل مدت کا فائدہ:

اس پلان میں شامل ہونے والے کو پلان کی مدت کی بیمیل پر کل یونٹس (پی آئی اے میں لگائے گئے) کی بولی کی قیمت کے مساوی رقم ادا کی جائے گی۔ اس کو بہتر طور پر سمجھنے کیلئے آپ ہمارے ڈسٹری بیوشن کے عملے سے مشورہ کریں۔ وہ آپ کو اس کے بارے میں زیادہ وضاحت سے سمجھا دیں گے۔

وفات کی صورت میں فائدہ:

اس پلان میں آپ اپنے تحفظ کی ضروریات کے مطابق انتخاب کر سکتے ہیں۔ تحفظ کی رقم آپ کی سالانہ جمع کرائی گئی بنیادی رقم کے 5 سے 25 گنا تک زیادہ ہو سکتی ہے جو آپ کے ساتھ کئے گئے تحریری معاہدے پر منحصر ہے۔ اگر پلان حاصل کرنے والا شخص، خدانخواستہ پلان کی مدت کے درمیان وفات پا جائے تو اس کے نامزد کردہ فرد کو منتخب کردہ تحفظ کی رقم یا یونٹس (پی آئی اے میں جمع شدہ رقم) کی بولی کی قیمت کے مساوی رقم میں جو بھی زیادہ ہو، ادا کر دی جائے گی۔

بلٹ ان فوائد

ضمنی تکافل فائدہ برائے حادثاتی موت:

اس ضمنی تکافل فائدہ کے تحت حادثاتی موت کی صورت میں آپ کی جانب سے منتخب کئے جانے والے ایک یا کئی افراد کو اضافی رقم ادا کی جائے گی۔

جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اوپل ٹکافل پلان آپ کے مالی مستقبل کیلئے ایک مضبوط اور ٹھوس سرمایہ کاری کا ذریعہ ہے۔

یہ جوہلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ۔ ونڈو ٹکافل آپریشنز: اوپل ٹکافل پلان جو کہ ایک یونٹ لٹریٹڈ ونڈو پلان ہے، یہ ایسا پلان ہے جو آپ کو اپنے اہداف کے حصول میں مدد دیتا ہے، چاہے بچت کی بات ہو یا تحفظ کی، یہ آپ کو سب سے زیادہ ممکنہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ آپ کے خوابوں کو تعبیر دینے میں اس ٹکافل پلان کا کوئی ثانی نہیں۔

اوپل کی سب سے بڑی خوبی پہلے ہی سال میں اس کی اونچے درجے میں تخصیص ہے جس میں آپ کا سرمایہ تیزی سے بڑھتا ہے اور آپ کو مارکیٹ میں موجود کسی بھی ایسے پلان کے مقابلے میں اپنی بچت کا ہدف جلد حاصل ہوتا ہے۔ یہ پلان خاص طور پر اونچے اہداف رکھنے والوں کیلئے تشکیل دیا گیا ہے جو زندگی میں بہت کچھ اضافی چاہتے ہیں۔ اوپل ٹکافل پلان آپ کے طرز زندگی کے مطابق تحفظ اور اضافی بچت کی سہولت پیش کرتا ہے۔ اس تیزی سے اضافہ کرنے والے پلان میں آپ کے پیاروں کیلئے مطلوبہ تحفظ بھی شامل ہے جو ان کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ ایسے فیملی ٹکافل پلان کی تلاش میں ہیں جو آپ کو پرکشش منافع کے ساتھ شریعہ پر مبنی تحفظ بھی فراہم کرے تو اوپل ٹکافل پلان آپ کا بہترین انتخاب ہے۔

پارٹنیشنٹ ممبر شپ دستاویزات کی وصولی کے 14 دنوں کے اندر ممبر شپ کو منسوخ کروا سکتا ہے۔

ٹکافل کیا ہے؟

"ٹکافل" عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ جس کا مطلب باہم ایک دوسرے کا ضامن بننا ہے۔ یہ ایک مشترکہ پولنگ سسٹم ہے۔ جو کہ بھائی چارہ اور باہمی تعاون کی بنیاد پر مبنی ہے۔ جہاں پارٹنیشنٹ ضرورت کے موقع پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔

ٹکافل کے بنیادی اصول:

پارٹنیشنٹ "تبرع" کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے وقف پول میں ایک مقررہ رقم ادا کرتے ہیں جسے "کنٹری بوشن" کہا جاتا ہے اور اس فنڈ کو "وقف فنڈ" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ونڈو ٹکافل آپریٹر بحیثیت وکیل وقف فنڈ کا انتظام و انصرام کرتا ہے جسے "انفرادی فیملی ٹکافل شرکاء کے فنڈ" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

کلیمز کی ادائیگی انفرادی فیملی ٹکافل شرکاء کے فنڈ (IFTPF) سے کی جاتی ہے۔

سرپلس ہونے کی صورت میں IFTPF میں موجود رقم کی تقسیم شریعہ ایڈوائزر اور کمپنی کے منتخب کردہ ایکچوری کی منظوری سے کی جاتی ہے۔



اوپل تکافل پلان
اونچے مالی اہداف کا حصول اب ہوا آسان

جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ۔ ونڈو تکافل آپریشنز